

✨ السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته ✨  
✨ بسم الله الرحمن الرحيم ✨  
✨ بإذن الله تعالى ✨  
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

Sunday 🌸 17

🌸 🌸 🌸 Answer Key # 17 🌸

📖 🌸 Al Hayat As Saeeda

📖 🌸 TOPIC: As Sae Fil Izaalatal Asbaab Iljalibt Lilhamoom

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸 سوال نمبر ۱ 🌸  
🌸 خالی جگہ پر کیجئے 🌸

🌸 ۱: غم و فکر کے اسباب کو ..... کرنا بھی خوشی کو واجب کرتا ہے۔ (۲)  
🌸 زائل ✨

🌸 ۲: حقیقتوں کو پھیرنا ممکن نہیں لیکن ان کو..... کی کوشش کی جائے۔  
(۲)  
🌸 بھلانے ✨

🌸 ۳: ماضی کے..... واقعات کے بارے میں سوچنا وقت کا ضیاع ہے۔ (۲)  
🌸 ناپسندیدہ ✨

🌸 ۴:..... کے متاثرہ شخص کو کسی مفید کام میں لگایا جائے۔ (۲)  
🌸 ڈپریشن ✨

🌸 ۵: انسان خود کے ساتھ مجاہدہ کرے کہ مجھے..... پر مبنی باتیں نہیں سوچنی۔ (۲)  
🌸 تلخیوں ✨

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸 سوال نمبر ۲ 🌸  
🌸 درست اور غلط کی نشاندہی کیجیے: 🌸  
🌸 ۱: آئندہ کے بارے میں بھی منفی نہ سوچا جائے۔ (۲)  
🌸 درست ✨

🌸 ۲: مستقبل ہمیشہ واضح اور خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ (۲)  
🌸 غلط ✨

۳: مستقبل اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ (۲)  
درست ✨

۴: رب پر توکل سے دل اطمینان پاتا ہے۔ (۲)  
درست ✨

۵: حالات کو بدلنے کیلئے ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲)  
غلط ✨

سوال نمبر ۳  
مختصر جوابات دیجئے:

۱: ہم و غم کے خاتمے کیلئے بتائی گئی دو طرفہ کوششیں کون سی ہیں؟ (۵)

ہم و غم کے خاتمے کے لئے دو-طرفہ کوششیں:  
غم کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش  
خوشی کے اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش

۲: حالات کو بدلنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ (۵)  
ہمیں خود کو اللہ سبحان و تعالیٰ کی پسند کے مطابق بدلنا ہے تاکہ حالات بدل جائیں۔

Sawal Number 1  
Khali jagah pur kijye:

1: Gham o fikr k asbaab ko..... kerna bhi khushi ko wajib kerta hy. (2)  
zail ✨

2: Haqiqaton ko pherna mumkin nhi lkn un ko..... ki koshish ki jaye. (2)  
bhulany ✨

3: Maazi k..... waqiaat k bary mn sochna wqt ka ziyaa hy. (2)  
napasandeeda ✨

4:..... k mutasra shakhs ko kisi mufeed kaam mn lagaya jaye. (2)  
Depression ✨

5: Insaan khud k saath mujahida kry k mujhy..... pr mabni batain nhi sochni. (2)  
talkhiyon ✨



🌸🌿 Sawal Number 2

🌸🌿 Darrust or ghalt ki nishandahi kijiye:

🌿1: Ainda k bary mn bhi manfi na socha jaye. (2)  
🌟Darrust

🌿2: Mustaqbil yaqeeni hota hy or hamesha khair pr mabni hota hy. (2)  
🌟Ghalt

🌿3: Mustaqbil Allah SWT k haath mn hy jo ghalib or hikmat wala hy. (2)  
🌟Darrust

🌿4:Rabb pr tawakkul se dil itmenan pata hy. (2)  
🌟Darrust

🌿5: Halat ko badalny k leye hamen khud ko badalny ki zururat nhi hy. (2)  
🌟Ghalt



🌸🌿 Sawal Number 3

🌸🌿 Mukhtasar jawabaat dijiye:

🌿1: Hamm o gham k khatmy k leye batai gai do tarfa koshishen kon se hn? (5)

🌟 Hamm o gham k khatmy k leye do trfa koshishen:

🌸Gham k asbaab ko doore kerny ki koshish.

🌸Khushi k asbaab ko hasil kerny ki koshish.

🌿2: Halat ko badalny k leye hamen kya kerna ho ga? (5)

🌟Hamen khud ko Allah SWT ki pasand k mutabiq badlna hy ta k halat badl jayn.



🌸🌿 Question Number 1

🌸🌿 Fill in the blanks:

🌿1:..... sorrow and worry necessarily brings joy and happiness. (2)  
🌟Alleviating

🌿2: Bitter realities can not be reversed but one should try to..... them. (2)  
🌟forget

🌿3: Pondering continuously over the harsh realities of the past is..... of time. (2)

✨wastage

🌱4:..... one should be employed to do something. (2)

✨Depressed

🌱5: Man should struggle utmost to convince himself that he shouldn't think about the..... things. (2)

✨bitter



🌱 Question Number 2

🌱 Tell whether right or wrong:

🌱1: Negative thinking about the future should also be stopped. (2)

✨right

🌱2: Future is always clear and unfolds good. (2)

✨wrong

🌱3: Future is in the hands of Allah SWT who is the most dominant and the most prudent. (2)

✨right

🌱4: Hearts find contentment in the remembrance of Allah SWT. (2)

✨right

🌱5:We need not change ourselves to change our circumstances. (2)

✨wrong



🌱 Question Number 3

🌱 Give short answers:

🌱1: What twofold efforts are prescribed to alleviate grief and sorrow? (5)

✨Twofold efforts to alleviate grief and sorrow are:

🌱to remove the causes of sorrow

🌱to acquire the causes of happiness.

🌱2:What we have to do to change our circumstances. (5)

✨We have to change ourselves according to the will of Allah SWT so that the circumstances .may change as well

